

عرق مہزل

خواص: موٹاپے کو ہم ایک عرصہ تک صحت مندی سمجھتے رہے ہیں۔ لیکن جدید تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ صحت اور موٹاپا دو الگ چیزیں ہیں۔ موٹاپا نہ صرف بیماری ہے بلکہ بہت سی دیگر بیماریوں کی جڑ ہے۔ اطباء نے موٹاپے کو کئی اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ لیکن اس کی بنیادی وجہ جسم میں خوراک کا صحیح ہضم نہ ہونا، اور خوراک سے غیر ضروری اجزاء کا جسم میں رہ جانا ہے۔

لاٹانی کا عرق مہزل ہر قسم کے موٹاپے کے لیے مفید ہے۔ اس کو لاٹانی فارما کی ریسرچ لیبارٹری کے تجربہ کار سٹاف نے جدید ریسرچ، تحقیق اور کامیاب کلینیکل ٹرائل کے بعد پورے اعتماد سے مارکیٹ میں پیش کیا ہے۔ مارکیٹ میں موجود دوسری ادویات سے ممتاز لاٹانی کا عرق مہزل ہر قسم کے مابعد اثرات سے پاک ہے۔ اسکے اجزاء صدیوں سے مستعمل ہیں۔ لیکن ان کو بہترین طریقہ اور تناسب سے موٹاپے کے علاج کے لیے پیش کرنے کا سہرا لاٹانی کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹیم کے سر پر ہے۔ عرق مہزل کے استعمال سے موٹاپا ختم ہوتا ہے۔ اور بہترین صحت حاصل ہوتی ہے۔ مریض کسی قسم کی کمزوری محسوس نہیں کرتا۔ اور نہ کوئی ہارمونل تبدیلی ہوتی ہے۔ عرق مہزل نہ کوئی جلاب آور ہے۔ اور نہ بھوک ختم کرتا ہے۔ بلکہ طبعی طریقے سے جسم کی ساخت میں غیر ضروری تبدیلی (موٹاپا) کو ختم کرتا ہے۔ موٹاپے کی وجہ سے جسم پر مرتبہ بد اثرات بھی عرق مہزل کے استعمال سے دور ہو جاتے ہیں۔ عرق مہزل ہر عمر کے مریض استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے عمدہ نتائج پہلے ہفتے سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلوبہ وزن کم کرنے کے بعد بھی اسکا استعمال وزن کو دوبارہ بڑھنے سے روکتا ہے۔ اور آپ کو چاک و چوبندر کھتا ہے۔ عرق مہزل کے استعمال کے ساتھ چکنائی سے پرہیز اور ورزش اس کے اثرات کو دوچند کر دیتے ہیں۔ جسمانی طور پر موٹاپے کی طرف مائل لوگ عرق مہزل کے استعمال سے موٹاپے سے بچ سکتے ہیں۔

ترکیب استعمال: بالغان: ۳۰ ملی لیٹر (4/1 کپ) سے 60 ملی لیٹر (2/1 کپ) تین مرتبہ روزانہ

8 سال سے 13 سال تک 15 ملی لیٹر (8/1 کپ) سے 30 ملی لیٹر (4/1 کپ) تین مرتبہ روزانہ

عمومی خوراک: 20 ملی لیٹر (2 کھانے کے چمچ) رات کو سوتے وقت